



# SECURITIES & EXCHANGE COMMISSION OF PAKISTAN

Press Release  
November 29, 2016  
For immediate release

## **SECP organizes two-day investor education seminar at COMSATS Institute of Information Technology**

ISLAMABAD, November 29: The Securities and Exchange Commission of Pakistan organized a two-day seminar for faculty members at COMSATS Institute of Information Technology under its initiative of educating current and potential investors.

Ms. Khalida Habib, director, Investor Education and International Relations Department at the SECP, explained SECP's investor education initiative, which is focused on raising financial literacy and transforming Pakistani society from its current primarily consumption-based mindset into one that has established saving and to enable individuals to make informed investment decisions, what the SECP is committed towards doing through disseminating investor education.

Mr. Zulfiqar Ali, senior portfolio investment manager at the NBP Fullerton Asset Management Company, gave the audience a comprehensive, step-by-step guide about financial planning and its benefits. Moreover, he explained the difference between saving and investing, the risks and biases involved in investing.

Mr. Zahid Latif Khan, chairman and non-executive director of Islamabad Stock Exchange (ISE) Towers Real Estate Investment Trust (REIT) Management Company Ltd, and chairman/CEO of Zahid Latif Khan Securities Pvt. Ltd., made a highly informative presentation about capital markets. He explained how to invest in stocks and clarified the concept of risk associated with investing.

Mr. Salman Haider Sheikh, CEO of Investments at Army Welfare Trust, delineated the subjects of Mutual Funds & the Voluntary Pension Scheme (VPS). Mr. Haider effectively explained the structure and types of mutual funds, along with the status of the industry in a global and Pakistani context. He ended with thoroughly explaining the VPS and engaging with the audience. Mr. Muhammad Irfan, manager, Agribusiness and Product Development at PMEX, provided an insightful account of commodities. He explained both the fundamentals and the complexities involved in commodity exchange, along with the role of PMEX.

Mr. Ali Basharat, financial analyst at Pakistan Microfinance Network (PMN), presented an informed explanation of microfinance with his exceptional knowledge in the field. He explained innovations in the field and its key insights. Ms. Samina Khan, head of the Underwriting Department at Askari General Insurance Company, enlightened the audience with the principles and products of insurance, takaful (Islamic Insurance), and insurance's economic benefits.

Mr. Muhammad Junaid Younas Ghori, joint director, Islamic Finance Department at the SECP, gave a lucid account of Islamic finance, and clarified several common misconceptions. Mr. Mian Ayyaz Afzal, CEO of Islamabad Stock Exchange (ISE) Towers Real Estate Investment Trust (REIT) Management Company, presented explanation of Real Estate Investment Trusts (REITs) and their benefits both from a global and Pakistani perspective.

Mr. Muhammad Akram Qureshi, deputy registrar of companies at SECP, provided a comprehensive explanation of the processes, procedures, rules, and advantages associated with company incorporation. Dr. Khaild Riaz, dean of COMSATS Institute of Information Technology, thanked the SECP for arranging the highly informative and educational seminar. He also expressed his interest in future collaboration with the SECP regarding such seminars.

## آگہی برائے مالیات و سرمایہ کاری: کامیٹس کے تدریسی عملے کے لئے ایس ای سی پی کا سیمینار

اسلام آباد: ۲۹ نومبر: سیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) نے کامیٹس انسٹی ٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تدریسی عملے کے لئے اسلام آباد میں دو روزہ سیمینار کا انعقاد کیا۔ اس سیمینار میں ماہر پیشہ وروں نے مالیاتی مارکیٹ کے بارے میں معلوماتی گفتگو کی۔ محترمہ خالدہ حبیب، ڈائریکٹر انویسٹمنٹس کمیشن ایس ای سی پی، نے سرمایہ کاروں کی آگہی کے لئے ایس ای سی پی کے اقدامات کی وضاحت کی اور اس عزم کو دہرایا کہ پاکستانی معاشرے کی معاشی سوچ میں مثالی تبدیلی لاکر اسراف کے بجائے بچت اور سرمایہ کاری کے رجحان کو فروغ دیا جائے۔ ایسا کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ افراد سرمایہ کاری کے باخبر فیصلے کریں اور اس میں ایس ای سی پی اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔

این بی پی فلرٹن ایسٹ مینجمنٹ کمپنی کے انویسٹمنٹ مینجر جناب ذوالفقار علی نے سامعین کو مالیاتی منصوبہ بندی اور اس کے فوائد کے بارے میں تفصیل سے بتایا اور بچت اور سرمایہ کاری میں فرق کی بھی وضاحت کی اور سرمایہ کاری میں درپیش خطرات کے بارے میں بھی بتایا۔ چیئرمین اسلام آباد سٹاک ایکسچینج جناب زاہد لطیف خان نے کیپٹل مارکیٹوں کے بارے میں معلوماتی پریزنٹیشن پیش کیا اور حصص اور سٹاک ایکسچینج کے کی تعریف پیش کرنے کے بعد وضاحت کی کہ حصص میں سرمایہ کاری کیسے کی جائے اور سرمایہ کاری کرتے وقت کن عوامل کا خیال رکھا جائے۔ آخر میں انہوں نے سرمایہ کاری سے منسلک خطرات کی وضاحت کی۔

آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کے شعبہ سرمایہ کاری کے سی ای او سلمان حیدر شیخ نے میوچل فنڈز اور رضا کارانہ پنشن سکیموں پر روشنی ڈالی۔ پہلے دن کے اختتام پر پی ایم ایکس میں منیجر انگری بزنس اور پروڈکٹ ڈیولپمنٹ مہر عرفان نے اجناس کے کاروبار کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی۔ انہوں نے اجناس کی ایکسچینج کے حوالے سے بنیادی عناصر اور پیچیدگیوں سے شرکاء کو آگاہ کیا۔ سیمینار کے دوسرے دن کا آغاز پاکستان مائیکروفنانس کے مالیاتی تجزیہ کار علی بشارت نے اس شعبہ پر روشنی ڈالتے ہوئے کیا۔ انہوں نے پاکستان میں مائیکروفنانس میں دستیاب مواقع، نئی جدتوں اور اس کے اہم خدوخال کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی۔

عسکری جنرل انشورنس کی ٹیمین خان نے شرکاء کو شعبہ بیمہ کی مصنوعات، تکافل اور اس سے جڑے معاشی فوائد سے شرکاء کو آگاہ کیا۔ ایس ای سی پی کے شعبہ اسلامی مالیات کے جوائنٹ ڈائریکٹر جنید پونس غوری نے اس حوالے سے پائی جانے والی عمومی غلط فہمیوں پر بات کی۔ اسلام آباد سٹاک ایکسچینج (آئی ایس ای) ماورز ریلیٹڈ انویسٹمنٹ ٹرسٹ کے سی ای او میاں ایاز افضل نے ریلیٹڈ انویسٹمنٹ ٹرسٹ میں سرمایہ کاری کے ضمن میں بات چیت کی۔

ایس ای سی پی کے ڈپٹی رجسٹرار کمپنیز محمد اکرم قریشی نے کمپنی کی تشکیل کے مختلف مراحل پر روشنی ڈالی اور شرکاء کو بتایا کہ کمپنیوں کی تشکیل کا عمل انتہائی آسان بنا دیا گیا ہے۔ آخر میں انتہائی معلوماتی اور علمی سیمینار منعقد کرنے پر کامیٹس کے ڈین ڈاکٹر خالد ریاض نے ایس ای سی پی کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے مستقبل میں بھی ایس ای سی پی کے ساتھ ایسے سیمینار منعقد کروانے کی خواہش کا اظہار کیا۔